

جو چکا ہے لیکن مخالفت کے خوف سے اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔
اسی سلسلے میں تاریخ سندھ کے مصنف مولانا ابو ظفر مدنی رقمطراز ہیں:
”اور یہ مسلمانوں کی پہلی تصنیف سندھی زبان میں تھی اور ہندوستان میں پہلا ترجمہ بھی ہی تھا“

رسم الخط

رسم الخط کے سلسلے میں ہمیں کوئی حتمی شہادت نہیں ملتی عرب جغرافیہ نویسوں نے سندھی زبان کا تو ذکر کیا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ سندھی زبان یا سندھ یا منصورہ کی دوسری مقامی زبان کسے لیے کون سا رسم الخط استعمال ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں مشہور عالم البوریجان بیرونی کی کتاب الہند میں چند سطریں پائی جاتی ہیں لیکن اس سے کسی صحیح نتیجے پر پہنچنا محال ہے۔ جب تاریخ اس حقیقت کی غمازی کر رہی ہے کہ منصورہ طمان اور سندھ کے اکثر اضلاع میں عربی اور سندھی مروج تھی تو گمان غالب یہ ہے کہ سندھی کا رسم الخط ابتدائی دور میں بھی عربی رسم الخط ہی ہوگا۔

لباس

ابو اسحاق ابراہیم بن محمد الاصطخری جو چوتھی صدی ہجری کے آغاز میں ممالک اسلامیہ کی سیاحت کو نکلا تھا اور ابن خردادبہ سے قریب قریب ایک صدی بعد کے حالات بیان کرتا ہے۔ بلا سندھ کے ذکر میں لکھتا ہے کہ:

”شہر منصورہ جسے سندھی میں برہمن آباد کہتے ہیں..... یہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں۔ اہل عراق کی مثل لباس پہنتے ہیں ان کی اور اہل مضافات کی زبان عربی اور ہے اور یہی حال شہر طمان اور نواح طمان کا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی سواق عرب کے باشندے کا سا لباس یعنی کُتے اور شلواریں یا تہمد استعمال کرتے ہیں۔ طمان رقبے کے اعتبار سے منصورہ سے نصف اور شہر اردور (اور) کے برابر ہے۔“

سندھ پر عربی و اسلامی تہذیب کے اثرات

جب عربوں نے سندھ فتح کر لیا تو انہوں نے تین واضح طریقوں سے اسلامی و عربی تہذیب کا اثر سندھ پر ڈالا جو آج تک قائم ہے۔

۱۔ عجمائے الہند بزرگ بن شہر بار لیڈن لہ مسلمانانِ کراچی و سندھ کی تعلیم ص ۳۵۰ بحوالہ تاریخ سندھ لکھنؤ حکومت عرب